

رنج، غم اور ذہنی دباؤ سے نجات

نفسی اور مادہ پرستی کے اس دور میں جدید تہذیب کا ایک تحفہ ذہنی دباؤ بھی ہے۔ ہر انسان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ بہت کم خوش فیض ایسے ہوں گے جو اس کیفیت سے نہ گزرے ہوں۔ مسائل کے ابشار میں بے بحی کی کیفیت غالب ہوتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں اہل ایمان کی خصوصیت سیکھی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔

زندگی خداۓ بزرگ و برتر کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ذہنی دباؤ جیسے خود ساختہ مسائل کے سد باب کے لیے مندرجہ ذیل رہنمایا اصول اپنانے چاہیں تاکہ زندگی آسان اور سہل ہو جائے۔

- ۱۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ یاد رکھیں کہ اس جہاں فانی میں کوئی چیز خداۓ بزرگ و برتر کے حکم اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بہت پسندیدہ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہے اور شکر گزاروں میں شامل ہوئے۔ بے شک اللہ کسی ذہنی روح پر اُس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا اور شکر گزاروں اور صہر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
- ۲۔ نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ بے شک نماز دلوں کو سکون دیتی ہے اور آنکھوں کی شہدک ہے۔ دعا موسمن کا احتیار ہے۔

- ۳۔ مسائل کو مصیبت نہیں بلکہ چیلنج سمجھ کر سامنا کریں۔ آپ اپنی استطاعت ہی تک ذمہ دار ہیں۔ ایک دھمکے کام کرنے کے بجائے ترجیح اور ترتیب کے ساتھ جو ممکن ہو اس کو کریں۔
- ۴۔ زندگی کے معاملات سلیمانی ہوئے ایک مقدمی اور متوازن اندماز کرپاہیں۔
- ۵۔ کتاب انسان کی بہترین دوست اور تجہیزی کی بہترین رفتق ہے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، نئے افکار اور خیالات سے آپ کی شخصیت کو جلا، فکر کو روشنی اور شعور کو پچھلی ملے گی۔
- ۶۔ اپنے قریبی لوگوں کو مسائل میں شریک کریں۔ ممکن ہے اس طرح مسائل کے حل کے لیے کوئی نیست اور بجهت مل جائے۔ مشورے اور شراکت سے بوجھ بانٹا جاسکتا ہے۔
- ۷۔ صحیح جلدی اٹھیں اور صحیح کی سیر کو اپنا معمول بنالیں۔ آپ محبوں کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ توانا اور چوکس ہیں۔
- ۸۔ جس طرح ہفتہ وار تعطیل ہمیں آرام اور توانائی بہم پہنچاتی ہے، اسی طرح کچھ وقت کی تفریگی مقام پر گزارنے سے انسان اپنی شخصیت پر اس کے خدوگوار اثرات کو محبوں کر سکتا ہے اور ایک تازہ و لولہ حاصل کر سکتا ہے۔